

Le jour de la langue maternelle

Français

Chaque année à le 21 février, c'est la journée de la langue maternelle. Les élèves de l'UPE2A, nous faisons une affiche sur notre pays avec notre langue maternelle. Nous avons écrit des choses importantes dans notre langue maternelle par exemple: Bonjour, Bon appétit, Au revoir. Il y a beaucoup des langues comme: espagnol, indonésien, roumain, arménien, russe, persan, ukrainien, arabe, etc. Nous avons parlé au micro de «Bonjour, pour fêter la journée de la langue maternelle. Les élèves d'UPE2A ont crée des affiches de leur pays dans leur langue. Vous êtes invités à venir les admirer en salle d'étude.» dans notre langue.

Anglais

February 21 every year is Mother Language Day. UPE2A students, we are making a poster about our country with our mother tongue. We wrote important things in our mother tongue for example: Hello, Enjoy your meal, Goodbye. There are many languages like: Spanish, Indonesian, Romanian, Armenian, Russian, Persian, Ukrainian, Arabic, etc. We spoke on the microphone of "Hello, to celebrate mother tongue day. UPE2A students created posters of their country in their language. You are invited to come and admire them in the study room. in our language.

Espagnol

El 21 de febrero de cada año es el Día de la Lengua Materna. Alumnos de la UPE2A, estamos haciendo un cartel sobre nuestro país con nuestra lengua materna. Escribimos cosas importantes en nuestra lengua materna, por ejemplo: Buenos días, Que aproveche, Adiós. Hay muchos idiomas como: español, indonesio, rumano, armenio, ruso, persa, ucraniano, árabe, etc. Hablamos por el micrófono de "Hola, para celebrar el día de la lengua materna. Estudiantes de la UPE2A crearon afiches de su país en su idioma. Estás invitado a venir y admirarlos en la sala de estudio. en nuestro idioma.

Russe

Ежегодно 21 февраля отмечается День родного языка. Студенты UPE2A, мы делаем плакат о нашей стране на нашем родном языке. Мы писали важные вещи на нашем родном языке, например: Доброе утро, Приятного аппетита, До свидания. Есть много языков, таких как: испанский, индонезийский, румынский, армянский, русский, персидский, украинский, арабский и т. д. Мы говорили в микрофон «Здравствуйте, с Днем родного языка. Студенты UPE2A создали плакаты своей страны на своем языке. Приглашаем вас прийти и полюбоваться ими в кабинете. на нашем языке.

Ukrainian

Щороку 21 лютого відзначається День рідної мови. Студенти УПО2А ми робимо плакат про нашу країну рідною мовою. Ми писали важливі речі рідною мовою, наприклад: *Добрий ранок, Смачного, до побачення*. Існує багато мов, таких як: *іспанська, індонезійська, румунська, вірменська, російська, перська, українська, арабська тощо*. Ми говорили в мікрофон «Алло, до дня рідної мови. Студенти UPE2A створили плакати своєї країни своєю мовою. Запрошуємо підійти та помилуватися ними в кабінеті. нашою мовою.

Arménien

Ամեն տարի փետրվարի 21-ին նշվում է Մայրենի լեզվի օրը: UPE2A ուսանողներ, մեր մայրենի լեզվով պաստառ ենք պատրաստում մեր երկրի մասին: Մենք կարևոր բաներ ենք գրել մեր մայրենի լեզվով, օրինակ՝ *բարև, բարի ախորժակ, ցտեսություն*: Կան բազմաթիվ լեզուներ, ինչպիսիք են *իսպաներեն, ինդոնեզերեն, ռումիներեն, հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, ուկրաիներեն, արաբերեն և այլն*: Խոսեցինք «Բարև, մայրենի լեզվի տոնը նշելու համար. UPE2A ուսանողները ստեղծել են իրենց երկրի պաստառները իրենց լեզվով: Ձեզ հրավիրում են գալ և հիանալ նրանցով աշխատասենյակում: մեր լեզվով.

Roumain

În fiecare an, 21 februarie este Ziua Limbii Materne. Studentii UPE2A, facem un afiș despre țara noastră cu limba maternă. Noi am scris lucruri importante în limba noastră maternă de exemplu: *Bună ziua, Poftă bună, La revedere*. Există multe limbi precum: *spaniolă, indoneziană, română, armeană, rusă, persană, ucraineană, arabă etc*. Noi am vorbit la microfonul „Bună ziua, pentru a sărbători ziua limbii materne. Studentii UPE2A au creat afișe cu țara lor în limba lor. Sunteți invitați să veniți să-i admirați în camera de studiu. în limba noastră.

Indonésien

Setiap tanggal 21 Februari adalah Hari Bahasa Ibu. Murid-murid UPE2A, kami membuat poster tentang negara kami dengan bahasa ibu kami. Kami menulis hal-hal penting dalam bahasa ibu kami misalnya: *Halo, Selamat makan, Selamat tinggal*. Ada banyak bahasa seperti: *Spanyol, Indonesia, Rumania, Armenia, Rusia, Persia, Ukraina, Arab, dll*. Kami berbicara di mikrofon “Halo, untuk merayakan hari bahasa ibu. Siswa UPE2A membuat poster negara mereka dalam bahasa mereka. Anda diundang untuk datang dan mengagumi mereka di ruang belajar. dalam bahasa kita.

Arabe

نقوم بعمل ملصق عن UPE2A فبر اير من كل عام هو يوم اللغة الأم. طلاب 21 بلدنا بلغتنا الأم. كتبنا أشياء مهمة بلغتنا الأم ، على سبيل المثال: صباح الخير ، شهية طيبة ، إلى اللقاء . هناك العديد من اللغات مثل: الإسبانية ، الإندونيسية ، الرومانية ، الأرمنية ، الروسية ، الفارسية ، الأوكرانية ، العربية ، إلخ. تحدثنا على الميكروفون بإنشاء UPE2A "صباح الخير ، للاحتفال بيوم اللغة الأم. قام طلاب ملصقات لبلد هم بلغتهم . أنت مدعو للحضور و إعجابهم في غرفة الدراسة. "بلغتنا"

Allemand

Am 21. Februar ist jedes Jahr der Tag der Muttersprache.

Die UPE2A-Studenten(innen), machen wir Poster über unser Land und unserer Muttersprache. Wir haben wichtige Dinge in unserer Muttersprache geschrieben, zum Beispiel: Hallo, guten Appetit, auf Wiedersehen. Es gibt viele Sprachen wie: Spanisch, Indonesisch, Rumänisch, Armenisch, Russisch, Persisch, Ukrainisch, Arabisch usw. Wir sprachen über das Mikrofon: „Hallo, um den Tag der Muttersprache zu feiern. Haben die UPE2A-Studenten(innen) Poster erstellt über ihr Land in ihrer Sprache. Ihr seid eingeladen, sie im Arbeitszimmer zu besichtigen.

Persan

ما در حال UPE2A فوریه هر سال روز زبان مادری است. دانشجویان 21 ساخت پوستری در مورد کشورمان با زبان مادری خود هستیم. ما چیزهای مهمی را به زبان مادری خود نوشتیم: سلام ، اشتهای خوب، خداحافظ. زبان های زیادی مانند: اسپانیایی، اندونزیایی، رومانیایی، ارمنی، روسی، فارسی، اوکراینی، عربی و غیره وجود دارد. با میکروفون «سلام ، پوسترها ی UPE2A به مناسبت روز زبان مادری» صحبت کردیم . دانشجویان کشور خود را به زبان خود ایجاد کردند. از شما دعوت می شود که بیایید و آنها را در اتاق مطالعه تحسین کنید. به زبان ما

Wolof

Bés bu nekk, 21i fan ci weeru feebar mooy bésu làkku ndey. Ci kaw téereb UPE2A, danoo def ab poster ci sunu réew ci sunu làkk. Nu bind ay yëf yu am solo ci sunu làkku ndey: Salamou alékoum , Lekk bu baax, Àjjuma. Am na ay làkk yu bare: làkku Españ, Indo, Roomaan, Armàn, Rus, Farãs, Ukaraay, Araab, ak yeneen. Wax nanu ci micro bi " Bonjour " , ngir tàggat bésub làkku ndey. Jëfandikukat yi nekk ci UPE2A sàkk nañu ay poster ci seen réew ci seen làkk. Dangeen di leen di woo, ngeen ñëw di leen gise ci néeg bi ñuy wax etude.

Géorgien

ყოველი წლის 21 თებერვალს დედა ენის დღეა. UPE2A სტუდენტებო, ჩვენ ვაკეთებთ პლაკატს ჩვენი ქვეყნის შესახებ ჩვენი მშობლიური ენით. ჩვენ დავწერეთ მნიშვნელოვანი რამ ჩვენს მშობლიურ ენაზე, მაგალითად: გამარჯობა, კარგი მადა, ნახვამდის. არსებობს მრავალი ენა, როგორცაა: ესპანური, ინდონეზიური, რუმინული, სომხური, რუსული, სპარსული, უკრაინული, არაბული და ა.შ. „გამარჯობა, დედაენის დღის აღსანიშნავად, მიკროფონზე ვილაპარაკეთ. UPE2A-ს სტუდენტებმა შექმნეს თავიანთი ქვეყნის პლაკატები თავიანთ ენაზე. გეპატიუებით, რომ მობრძანდეთ და აღფრთოვანდეთ მათ სასწავლო ოთახში. ჩვენს ენაზე.

Ourdou

21 کے طلباء، ہم اپنی مادری زبان سے اپنے UPE2A فروری ہر سال مادری زبانوں کا دن ہوتا ہے۔ ملک کے بارے میں پوسٹر بنا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی مادری زبان میں اہم چیزیں لکھیں مثال کے طور پر: ہیلو، ہون ایپیٹیٹ، الوداع۔ بہت سی زبانیں ہیں جیسے: ہسپانوی، انڈونیشیائی، رومانیہ، آرمینیائی، روسی، فارسی، یوکرینی، عربی وغیرہ۔ ہم نے اپنی مادری زبان کا دن منانے کے لیے "ہیلو، کے مائیکروفون کے طلباء نے اپنی زبان میں اپنے ملک کے پوسٹرز بنائے۔ آپ کو اسٹڈی روم میں UPE2A پر بات کی۔ آنے اور ان کی تعریف کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہماری زبان میں

Albanais

21 shkurti i çdo viti është dita e gjuhës amtare. Studentë të UPE2A, po bëjmë një poster për vendin tonë me gjuhën tonë amtare. Ne kemi shkruar gjëra të rëndësishme në gjuhën tonë amtare për shembull: pershendetje, mire oreks, mirupafshim. Ka shumë gjuhë si: spanjisht, indonezisht, rumanisht, armenisht, rusisht, persisht, ukrainisht, arabisht, etj. Ne folëm në mikrofonin e “Përshëndetje, për të festuar ditën e gjuhës amtare. Studentët e UPE2A krijuan postera të vendit të tyre në gjuhën e tyre. Jeni të ftuar të vini dhe t'i admironi në dhomën e studimit. në gjuhën tonë.

Portugais

21 de fevereiro de cada ano é o Dia da Língua Materna. Alunos da UPE2A, estamos a fazer um cartaz sobre o nosso país com a nossa língua materna. Escrevamos coisas importantes em nossa língua materna, por exemplo: Olá, Bom apetite, Adeus. Existem muitos idiomas como: espanhol, indonésio, romeno, armênio, russo, persa, ucraniano, árabe, etc. Falamos ao microfone “Olá, para comemorar o dia da língua materna. Os alunos da UPE2A criaram cartazes de seu país em seu idioma. Você está convidado a admirá-los na sala de estudo. em nosso idioma.

